

بارہ ماہ کے بچے کے سلسلے میں مشورے

Twelve months Urdu

## ابتدائی الفاظ



کیا آپ جانتے ہیں؟

آپ کے بچے کو چیزیں ڈھونڈنا، انہیں غور سے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور اسے آپ کی طرف سے شاباش اور مدد کی ضرورت ہے۔

آپ کا بچہ ایک ایک کر کے کچھ الفاظ استعمال کرنا شروع کر رہا ہے جبکہ وہ بہت سے اور الفاظ بھی سمجھ سکتا ہے۔

بچے کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا، گانے گانا اور بار بار وہی گانے اور کھیل دہرانا اچھا لگتا ہے۔

اس عمر کے بچوں کو وہ کتابیں اچھی لگتی ہیں جن میں زیادہ الفاظ ہوں۔

انہیں موٹے مومی رنگوں سے نشان اور نقطے بنانا پسند ہوتا ہے۔

زبان کے معاملے میں یہ دور بہت اہم ہے۔ ٹی وی کی نسبت یہی ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیلیں۔

اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟

باتیں کرنے میں اپنے بچے کی مدد کیجئے۔ بچوں کیلئے الفاظ دہرائئے اور انہیں نئے الفاظ بھی سکھائیے۔ ابھی ابھی اپنے گھر کی زبان استعمال کرتے رہئے۔

آسان گیت گائے اور ساتھ ساتھ انگلیوں کو حرکت دیجئے۔

کھیلوں اور نظموں کے ذریعے جسم کے حصوں کے نام سکھائیے۔

روزانہ اکٹھے بیٹھ کر تصویریں دیکھئے اور کہانیاں پڑھئے۔ ہر جگہ کتابیں ساتھ لے جائئے۔

جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو ٹی وی اور ریڈیو بند رکھئے۔

وقت نکال کر اپنے گھر میں ادھر ادھر چیزیں دیکھئے اور آوازیں سنئے۔

گھر میں یا گاڑی میں بچوں کی سی ڈی یا ٹیپ لگا کر گانے سنئے اور ساتھ ساتھ گائے۔

اپنے علاقے کی لائبریری یا پلے گروپ کا ممبر بننے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

کون لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟

آپ کے خاندان کے لوگ اور دوست۔

آپ کا ڈاکٹر یا کمیونٹی ورکر، بچوں کی نگہداشت کے ادارے یا پلے گروپ کا عملہ۔

**www.earlywords.info** (The Early Words) کی ویب سائٹ

اگر آپ کے بچے کی اضافی ضروریات ہوں تو اپنے ڈاکٹر یا بچے کیلئے خصوصی ورکر سے ان ضروریات کے بارے میں مزید باتیں پوچھئے۔

نظر میں رکھئے

18 ماہ کے بچے کیلئے مشوروں پر مشتمل ایک اور تحریر۔